

﴿ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾

چونیتی عومره کردن

به ناسان ترین شیوه

به پیی سوننه تی پیغه مبه ر صلی اللہ علیہ وسلم

ناماده کردنی

ماموستا محمد عبد الرحمن که لاری

وتارخوینی مزگه وتی حاجی نهر

سایتی به هه شت

www.ba8.org

هه میشه له گه ثمان بن بو به ره می نوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ - که له مان دهردهچیت ئەم زیکره دهخوینیت :

(بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) .

۲ - وه ئەم زیکره دهخوینیت له کاتی خوا حافیزی کردن له که سوکار :

(أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ) .

۳ - وه ئەم زیکره دهخوینیت دواي سهرکه وتنه ناو سه یاره و ته یاره :

(بِسْمِ اللَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) .

۴ - پاشان ئەم زیکره دهخوینیت بۆ سه فه ر کردن :

(اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ) ، : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ﴾ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا
، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ
السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ " .

کاره کانی کاتی ئیحرام کردن :

* پيش ئیحرام کردن چی دهکهیت :

ئەگەر گەيشتنه (ذو الحليفة) ئەوا ئەم کارانهی خواره وه ئەنجام بده :

۱ - سوننه ته پيش ئیحرام کردن خۆت بشویت .

۲ - سوننه ته بۆ پیاوان بۆنی خۆش له لاشه یان بدن ، وه بۆ ئافره تان کریم و پۆنی به سود له لاشه یان بدن ، وه
نابیت جلی له بهر کراو بۆ ئیحرام بۆنی لیبدریت .

۳ - دواي ئەوه جلی ئیحرام له بهر دهکهیت ، بۆ پیاوان دوو پارچه ی سپی به یه که میان دهوتریت (رداء) که
دهدریت به سه رهردوو شان و سک و پشتدا تا ناوک ، وه ئەوهی تریان پیی دهوتریت ئیزار که له ناوکه وه
تا ئەژنۆی پیی داده پۆشیت ، به لām ئافره تان جلیکی داپۆشراو له بهر دهکهن که هه موو لاشه یان داپۆشیت
جگه له ههردوو له پ و رومه تیان نه بیّت .

﴿وه سوننه ت وایه له (ذو الحليفة) دوو رکعات نوێژ بکه یه ت چونکه شوینیکی موباره که﴾ .

* ئىجرام كردن :

وه له دواى ئەمانه روو له قىبله دهكهيت و به پيوه دهئيت : (لبيك اللهم عمرةً).

٦ - ئەنجا دواى ئەوه دهئيت : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لك والمملك ، لا شريك لك) ، وه سوننه ته به دهنگى زور بهرز ئەم زيكه بلييته وه .

٧ - بهردهوام ئەم زيكه دهئيت تا ماله كانى مهكه ديتته پيش چاوت ، ئەنجا واز دهئيت له م زيكه

و ، ئەم كارانهى خواره وه ئەنجام ده ديت :

* پيش چونه ناو مهكه وه :

سوننه ته پيش چونه ناو مهكه وه خوت بشويت ئەگه ر بۆت كرا ، وه سوننه ته به رۆژ بجيته ناو مهكه وه

، وه چاكتر وايه له سهروى مهكه وه بچنه ژوره وه .

دواى چونه ناو مزگه وته وه چى دهكهيت ؟

١ - به قاچى راسته وه دهرويته ژوره وه ، ئەنجا بلي : (بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،

اللهم افتح لي أبواب رحمتك) .

٢ - ئەنجا يه كسه ر بړو بۆ لاي بهرده رهشكه (الحجر الأسود) ، وه رووى تيدهكهيت و دهئيت :

(بسم الله ، الله أكبر) .

٣ - ئەنجا ئەگه ر بۆت كرا دهست دهئيت به بهردهكهدا و به دميش ماچى دهكهيت و سوجهى له

سه ر ده بهيت .

وه ئەگه ر بۆت نه كرا ماچى بكهيت ئەوا دهست دهئيت به بهردهكهدا و ئەنجا ماچى دهست

دهكهيت .

وه ئەگه ر ئەمهشت بۆ نه كرا ئەوا به دهستى راستت له دوره وه روو بكه له بهرده رهشكه و

ئيشاره تى بۆ بكه و بلي (الله أكبر) و هيچى تر مهكه .

وه له هه موو سوپانه وه يكدا ئەمه دووباره دهكهيته وه ، به لام نابيت نازارى خه لك به ديت .

٤ - ئەنجا پۆشاكى سه ره وهى ناوكت دهكهيته وه و ناوه راسته كهى دهخه يته ژير بالى راست و بۆ

ئه وهى شانى راستت به ده ره وه بيت ، وه هه ردوو سه رى پۆشاكه كه ده ديت به سه ر شانى چه پته وه .

٥ - ئەنجا له ئاستى به رده رهشكه و له سه ر خه ته رهشكه وه دهست دهكهيت به ته واف كردن به

دهورى كه عبه دا و كه عبه دهخه يته لاي چه پته وه .

٦ - وه كه گه يشتيته روكنى يه مانى دهستت بهينه به سه ري دا و به لام نابيت ماچى بكهيت ، وه ئەگه ر

بۆت نه كرا دهستت بهيني به سه ري دا ئەوا نازارى كه س مه ده و نابيت به دهستيش ئيشاره تى بۆ بكهيت

چونكه بيدعه يه .

۷ - وه سوننه ته له نيوان روكنى يه مانى و بهرده په شه كه دا ئه م زيكره بلييت : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ .

وه دروسته سينگ و رومتهت به و لا ديواره دا بلکينيت كه له نيوان ده رگای كه عبه و بهرده ره شه كه دا هه يه ، و دوعای خيريش زور بکه .

۸ - وه سوننه ته له سى ته وافی يه كه مدا توژيك به خيرایى و به په له بسورپيته وه .

وه سوننه ته دست نويزت هه بيت بؤ ته واف كردن ، وه له كاتى ته واف كردندا هه ر دوعايه ك يان هه ر زيكره بکه يت ئه و دروسته و دروسته قورئانيش بخوينيت .

وه كه ته وافی هه وته مت ته و او كرد ئه و ماچى بهرده كه مه كه و ده ستيشى بؤ دريژ مه كه چونكه بيدعه يه .

ئه نجا دواى ته و او بوونى ته وافی هه وته م شانى راستت داپوشه و يه كسه ر بړؤ بؤ لای (مه قامى ئيبراهيم) و ئه م ئايه ته بخوينه ره وه :
(وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) .

ئه نجا له پشت (مه قامى ئيبراهيم) هوه دوو ركعات نويزى سوننه ته ده كه يت ، وه سوننه ته له ركعاتى يه كه مدا سورته ي ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (۱) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (۲) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۳) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (۴) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (۶)﴾
وه له ركعاتى دووه مدا سورته ي ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾ بخوينيت .

ئه نجا ده چپته خواره وه بؤ لای ئاوى زه مزه م و لى ده خويته وه و هه نديكيش بکه به سه ر سه رتدا .
دواى ئه مه بگه پيره وه بؤ لای بهرده په شه كه و ئه گه ر توانيت ده ستى پيدا ده هينيت و ماچى ده كه يت ، وه ئه گه ر ئيزدحام بوو ئه و ده چپته سه ر خه ته په شه كه و به رامبه ر بهرده كه ده ست به رز ده كه يته وه و ئيشاره تى بؤ ده كه يت و ده لئيت (بسم الله ، الله أكبر) .

* سه عى نيوان سه فا و مهروه :

۱ - ئه نجا له ده رگای سه فاوه ده پويت به ره و كيوى سه فا ، وه كه نزيك بوينه وه ئه م ئايه ته بخوينه ره وه : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ .
ئه نجا بلى : (نبدأ بما بدأ الله به) .

۲ - ئه نجا ده چپته سه ر كيوى سه فا و پوو له كه عبه ده كه يت و ده لئيت : (الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر) ،
ئه نجا سى جار ئه م زيكره ده لئيت :

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له المُلْكُ وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده) .

- وه سوننه ته له نيوان ئه م زيكرانه دا دعواي خير بكهيت .
- ۳ - ئه نجا شوږ ده بيته وه له سه فاوه به ره و كيوي مهروه .
- ۴ - وه له ئاستي به يداخه سه وزه كه دا به خيرايبی و به په له برؤ تا ئاستي ئه و به يداخه سه وزه كه ي تر
- ۵ - ئه نجا له سه ر خو و به رى كردن به سه ر مهروه دا سه ركه وه .
- ۶ - ئه نجا له سه ر كيوي مهروه دا پوو له كه عبه بكه و ئه و زيكرانه بخوينه كه له سه ر كيوي سه فا دا خویندت .

وه سوننه ته له نيوان سه فا و مهروه دا ئه م زيكره بلييت :

(رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ) .

دواي ته واو بووني سه عى نيوان سه فا و مهروه ، ئه نجا سه رت بتاشه يان كورتى كه ره وه (سه رتاشين باشتره له كورت كردنه وهى) .

پاشان عومره كه ت ته واو ده بييت و ئيحرامه كه ت ته واو ده بييت و هموو شته حرام بووه كانت له سه ر حه لال ده بييت .

سَهْفَقَرِي مَدِينَةَ

دواي پويشتنه ناو شارى مه دينه وه يه كسه ر برؤ بو مزگه وتى پيغه مبه ر (ﷺ) :

۱ - به قاچى پاسته وه ده رويته ژوره وه ، ئه نجا بلى : (بِسْمِ اللَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) .

۲ - دوو ركعات نويزى (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) بكه .

وه ئه گه ر كاتى نويزى فه رز بوو ئه وا فه رزه كه به جماعت ئه نجام بده .

۳ - پاشان برؤ بو لاي قه بره كه ي پيغه مبه ر (ﷺ) وه پوو به پووى قه بره كه پاره ستو بلى : (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) .

پاشان توژيك به لاي پاستدا وه رچه رخي و ئه نجا بلى : (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ) .

پاشان توژيك به لاي چه پدا وه رچه رخي و ئه نجا بلى : (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ) .

وه نابيت له مه زياتر بكهيت ئه گينا ده كه ويته ناو بيدعه وه ، وه ئه گه ر هاواريان تيبكهيت و لئيان بپاربيته وه و داوايان لى بكهيت ئه وا ده كه ويته ناو شيركه وه كه هموو كرده وه كانت (به عومره كه يشه وه) به تال ده كاته وه !!!

۴ - ئه نجا سوننه ته به ده ست نويزه وه برويت بو مزگه وتى (قُبَاءِ) و له وي دوو ركعات نويزى

سوننه ت بكهيت ، چونكه خيرى عومره يه كى هه يه .

۵ - وه سوننه ته سەردانی گۆرستانی (به قیغ) و گۆرستانی (شه هیده کانی ئوحد) بکهیت ، وه ئه م زیکر و دوغایه بلی: (السلامُ علیکم أهلّ الدیار من المؤمنین والمسلمین ، وانا إن شاء الله بکم للاحقون ، نسألُ الله لنا ولكم العافیة) .

وه سوننه ت نییه بچیت بۆ مزگه وته کانی تری مه ککه و مه دینه و ده ورو به ریان جگه له مزگه وتی (قُباء) نه بیّت ، جا وریا بن له بیدعه و به پیی سوننه ت ره فتار بکن !!!

تیبینی :

بۆ زانیاری زیاتر پیویسته ئه م کتیبه ت پی بیّت :

حەج و عومره

فهزل و چۆنیتی و حوکمه کانی

به گویره ی قورئان و سوننه ت

نووسنی : (مامۆستا / عبد اللطیف)

ئیمام و خه تیبی مزگه وتی گوره ی چوارقورنه

چهند بیرخستنه وه یه ک :

- ۱ - زیاتر مه شغول بن عیباده ت و خواپه رستی یه وه نه ک گه پان و خه وتن ...
- ۲ - له دوغای خیر بی به شمان نه کهن .
- ۳ - تا پیتان ده کریت قورئان و کتیبی شه رعی بۆ موسلمانان بهینن .
- ۴ - ئاگادار بن پاداشتی (عومره) که تان به تال نه که نه وه به تاوان کردن .
- ۵ - دوا ی گه پانه وه باسی سووده کانی ئه و سه فه ره موباره که بکن بۆ موسلمانان .

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ ... وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ